

رمضان — ایک ماہ مبارک

شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ

صدر: وفاق المدارس العربیہ پاکستان

اسلامی عبادات میں روزہ تیسرا رکن شمار کیا گیا ہے، عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی رکنے کے ہیں، قرآن کریم میں صوم کے لئے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ضبط نفس اور ثابت قدمی کے ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے مفہوم میں نفسانی خواہشات سے رکننا اور ہوا ہوس کے مواقع میں جہاں لغزش کا اندیشہ پایا جاتا ہے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا داخل ہے، چونکہ خواہشات اور نفسانی حرص کا محور عموماً خورد و نوش اور جنسی تعلقات ہی ہوتے ہیں، اس لئے اسلام نے ایک مقررہ وقت کے روزے کے ذریعے انہی پر پابندی عائد کی ہے لیکن روزے کا مقصد حاصل کرنے کے لئے ظاہری خواہشات کے ساتھ باطنی خواہشات اور برائیوں سے دل اور زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔

انسان کو مادی کمالات اور غلاظت سے پاک کرنے کے لئے تمام ہی مذاہب نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے، اس لئے کسی نہ کسی صورت میں روزہ ہر مذہب میں موجود رہا ہے، اسلام نے اس میں اعتدال کی پوری پوری رعایت کی ہے، زندگی کے لئے کھانے پینے سے مکمل بے نیازی تو نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ روزے کے لئے چوبیس گھنٹے میں چند گھنٹے مقرر کئے گئے ہیں، اس کو غنتوں اور چلوں پر تو کیا محیط کیا جاتا، چوبیس گھنٹے پر بھی نہیں پھیلا یا گیا، بچوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا، کمزور اور بوڑھوں کو فدیے کی سہولت دی گئی، مسافروں، بیماروں، مخصوص دنوں میں، حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں عورتوں کو رعایت دی گئی ہے کہ عذر کے ختم ہونے پر بعد میں وہ قضا کر لیں۔ شش سال کے بجائے قمری تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے، چونکہ شش حساب میں نہ تو موسموں کا تغیر و تبدل ممکن ہے، نہ دن رات میں فرق ہو سکتا ہے، اگر کسی ملک میں وہ گرمی میں ہوں گے تو ہمیشہ گرمی ہی ہوگی اور اگر کہیں وہ سردی میں آئیں گے تو سردی ہی ہوگی، یہی حال دن رات کے اوقات کا ہوگا، برخلاف قمری مہینوں کے ان کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے اور شب و روز کی مقدار میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس طرح روزوں کا مہینہ رمضان المبارک ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے اور سب کو اس کی سختی اور نرمی

سے سابقہ پیش آتا ہے۔

قرآن کریم نے روزے کا مقصد واضح طور پر تقویٰ بتایا ہے، تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے دشت اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے چونکہ عموماً گناہ کا ارتکاب حیوانی جذبات کے افراد پر ہوتا ہے اور روزے میں کھانے پینے اور حسی جذبات پر پابندی لگنے کی وجہ سے ان جذبات میں کمزوری اور کمی آتی ہے، اس لئے تقویٰ کی کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے، پھر چونکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، دوسروں کے لئے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بھی روزوں کے زیر اثر ترقی پاتے ہیں، روزے اور فاقے میں فرق کرنے کے لئے گناہوں سے خاص اہتمام کے ساتھ پرہیز کیا جاتا ہے، اس سے تقویٰ کے حصول کے لئے اور زیادہ نضا سازگار ہو جاتی ہے۔ اگر رمضان کے اس مبارک مہینے میں نماز کے اہتمام کے ساتھ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا بھی اچھی طرح اہتمام کیا جائے، ذکر و فکر یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ! اللہ! کے ساتھ، تسبیح فاطمی کے ساتھ، استغفار، درود شریف کے ساتھ، تلاوت قرآن کریم کے ساتھ اور اس کے ساتھ موت وبرزخ اور آخرت کے آنے والے حالات کے مراقبے کا اہتمام کیا جائے تو انتہائی مبارک قدم ہے۔

رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب ستر گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی پر بس نہیں، اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی رحمت کا بھکاری بن کر اور اس کی خوشنودی کو مقصد اصلی بنا کر اس مبارک مہینے کے مخصوص اعمال کو سلیقے اور قرینے سے ادا کرے گا تو پوری امید ہے کہ اس سے اس کی آئندہ زندگی ضرور سنورے گی اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔

کوہ سینا پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جاتے ہیں تو چالیس دن تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کوہ سعیر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جب انجیل اتری تو وہ بھی پہلے سے چالیس دن تک روزہ کی حالت میں رہتے چلے آئے تھے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پورے ایک مہینے تک غار حرا میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہے اور بالآخر وہیں "اقرا باسم ربك الذى خلق" کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔

”ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لئے سر تا پا ہدایت،

ہدایت کی دلیلیں اور حق باطل میں فارق بن کر آیا ہے، پس جو رمضان کے مہینے کو پائے

وہ اس پورے مہینے میں روزے رکھے۔“ (بقرہ: ۱۸۵)

ماہ رمضان کی وہ رات جس میں واقعہ نماہواہم اس کو ”شب قدر“ کے نام سے پہچانتے ہیں:

”بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔“ (القدر: ۱)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، پیغمبر امی

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی ہدایت کے لئے دستور الہی کا سب سے پہلا صفحہ اس مبارک مہینے میں عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کا حامل اور وحی الہی سے سرفراز کیا جانے والا ان دنوں میں ایک عار کے کونے میں اکیلا دو تنہا بھوکا اور پیاسا سریزہ زانور تھا، اس بنا پر اس ماہ تقدس میں بھوکا پیاسا رہنا یعنی روزہ رکھنا اور کسی عبادت گاہ میں اکیلا دو تنہا رہنا یعنی اعتکاف کرنا، نازل وحی کی رات یعنی لیلۃ القدر میں بیدار سر بسجود رہنا تمام امتیوں کے لئے ضروری تھا تاکہ بقدر امکان اس مبارک مہینے میں ہم وہی حالات اور کیفیات اپنے اوپر طاری کریں جو حالات و کیفیات اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھے اور اس ہدایت ربانی اور نعمت خداوندی سے پورے طریقہ پر فیض یاب ہو سکیں اور ہدایت و انعام کی یہ یادگار تاریخ فراموش نہ ہونے پائے اور خدائے برتر کی اس نعمت کا شکر ادا ہوتا رہے۔

قدرت کی عطا کردہ یہ خصوصیت ماہ رمضان ہی کو حاصل ہے اس لئے وہ گرمی کے زمانے میں یا سردی اور بہار کے زمانے میں، فرض روزہ کا محل وہی رہے گا، اس میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ مادی دنیا جس طرح ایک نظام و قانون کی پابند ہے اسی طرح روحانی دنیا کا اپنا ایک نظام اور قانون ہے۔ اگر دنیاوی نظام میں لا قانونیت مضر اور نقصان دہ ہے تو روحانی نظام میں بھی اس کے نقصان اور ضرر کا انکار ممکن نہیں، مثال کے طور پر اگر رمضان کے روزوں کو قمری حساب سے ہٹا کر شمسی حساب کے تحت فروری کے لئے تجویز کیا جائے تو اس طرح وہ روحانی نظام درہم برہم ہو کر لا قانونیت کی نذر ہو جائے گا اور عقل و شرع کی کسی بھی بنیاد پر اس کو درست نہیں کیا جاسکے گا۔

بہت سے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جن سے ہر کوئی واقف ہے، اتنے آسان ہوتے ہیں کہ ان کو ادا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا، عام حالات میں آدمی ادھر التفات نہیں کرتا لیکن روحانیت سے لبریز اس زمانے میں اگر ان کی طرف توجہ کی جائے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے ان پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمادے، اسی طرح کئی گناہ جن سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور وہ سراسر بے مقصد ہوتے ہیں، اس خیر و برکت کے زمانے میں ان سے بچنے کی بھی ہمت کی جاسکتی ہے، بد نظری یعنی اجنبی عورتوں کو تکنا، دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہنا، گانے باجے سننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کا دل دکھانا جبکہ وہ کسی خلاف شریعت بات کے لئے نہ کہتے ہوں، چغلی خوری اور دھوکہ دہی وغیرہ وہ گناہ ہیں کہ ان کا نقصان ہر ایک پر ظاہر ہے، اگر روزے میں تقویٰ کی صفت حاصل کرنے کے لئے خاص طور پر ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو کوئی مشکل بات تو نہیں۔

اسی طرح اکل حلال کا انتظام بھی بطور خاص اس مقصد میں کیسا کا اثر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ سنہری موقع ہم کو عنایت فرمایا ہے، ممکن ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اے کاش! ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کے آداب کی بجا آوری کے ساتھ ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں۔ آمین

اللهم سهل لنا الأمور كلها ووفقنا لما تحب وترضى